

Job

Chapter 9

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1
وَيَعْنُ أَيُّوبَ وَيَأْمُرُ:
اور-جواب-دیا ایوب-نے اور-کہا
H0347 H0559

کہا، کر دے جواب نے ایوب

2
أَيُّوبُ يَقِينًا جَانِتًا بُونَ يَدْعَتِي كَيْ كَيْنَ وَمَا- رَاسْتَبَاز-تَهْرَے انْشَانِ كَيْ-سَامَنْعِ عَمَّ- آدَلُ:
یقیناً جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہے اور کیسے راستباز-تھہرے انسان کے سامنے خدا-کے
H0551 H3045 H4100 H6663 H0582 H0410

ہے؟ سکتا تھہر باز راست طرح کس انسان حضور کے اللہ لیکن ہے۔ درست بات تیری کہ ہوں جاننا خوب

3
أَسْ- إِنْحَافٌ لَّيْبٌ عَمُّو لَأ- أَهْتِئُو أَهْتِئُو مَنِي- آدَلُ:
اگر چاہے جھگڑا کرنا اُس سے نہیں جواب دے-سکے-گا-اُسے ایک ہزار-میں-سے ہزار
H0259 H3808 H7378 H0505

گا۔سکے دے نہیں جواب بھی کا ایک پر سوالات ہزار کے اُس تو چاہے لڑنا ساتھ کے اللہ میں عدالت وہ اگر

4
حُكْمٌ دَلٌّ فِي دَلِّهِمْ لُجْبٌ وَأَمْيُزٌ قُوْت-مِيں كُوْنٌ مِي- هَكَشَا أَهْلِيُو وَيَشْلَمُ:
حکمتمند دل-میں اور-طاقتور قوت-میں کون سختی-کی-ہے اُس-کے-خلاف اور-سلامت-پایا
H2450 H3824 H0533 H4310 H7185 H0413

ہے؟ ربا کامیاب کے کر مباحثہ بحث سے اُس کبھی کون ہے۔ عظیم قدرت کی اُس اور مند دانش دل کا اللہ

5
هَمْعَتِيْكَ يَهَاؤُو كُو اور-نهيں جانتے جُو پَلْث-ديتا-ہے-اُنهيں اپنے-غضب-میں كَافُو:
ہم-انہی-کے-والا پہاڑوں-کو اور-نہیں جانتے جو پلٹ-دیتا-ہے-اُنہیں اپنے-غضب-میں
H6275 H2022 H3808 H3045 H2015 H0639

ہے۔دیتا اُنہی کے آ میں غصے وہ چلتا۔ نہیں ہی پتا اُنہیں اور ہے، دیتا کھسکا کو پہاڑوں اللہ

6
هَمْرِيُو بَلَانِ-وَالَا زَمِيْن-كُو اُس-كِي-جگہ-سے اور-اُس-كے-سْتُوْنِ كَانِپ-اُتْهتے-بيں يَتَفَلَّخُو:
ہم-انہی-کے-والا زمین-کو اُس-کی-جگہ-سے اور-اُس-کے-سْتُوْنِ کَانِپ-اُتْهتے-بيں
H7264 H0776 H4725 H5982 H6426

ہیں۔اُتْهتے کَانِپ سْتُوْنِ بنیادی کے اُس ہے، جاتی ہٹ سے جگہ اپنی کر لرز وہ تو ہے دیتا بلا کو زمین وہ

7
هَامْرُ كَهْنِ-وَالَا سُوْرَج-سے اور-نهيں چمکتا اور-اوپر وَبَعْدُ فُوْكَبِيْمِ يَحْتَمُ:
کہنے-والا سورج-سے اور-نہیں چمکتا اور-اوپر وَبَعْدُ فُوْكَبِيْمِ يَحْتَمُ
H0559 H3808 H2224 H1157 H3556 H2856

ہے۔جاتی ہو بند دمک چمک کی اُن تو ہے لگاتا مُر پر ستاروں ہوتا، نہیں طلوع تو ہے دیتا حکم کو سورج وہ

8
نُطَا آسْمَانُوْنِ-كُو اَكِيْلَا اور-چلنے-وَالَا اُوْپَر بَلَنْدِيُوْنِ-پَر سَمْنَدْرِي-كِي
پھیلانے-والا آسمانوں-کو اکیلا اور-چلنے-وَالَا اُوْپَر بَلَنْدِيُوْنِ-پَر سَمْنَدْرِي-كِي
H5186 H8064 H0905 H1869 H1116 H3220

ہے۔دیتا کچل تلے پاؤں کو پیٹھ کی اڑدے سمندری وہی دیتا، تان طرح کی خیمے کو آسمان ہی اللہ

9
عَظْمًا دَبُّ-كُو جَبَّار-كُو اور-تَرِيَا-كُو اور-كَمْرُوْنِ-كُو تَمُوْنِ:
ہم-انہی-کے-والا دہ-کو جبار-کو اور-تَرِيَا-كُو اور-كَمْرُوْنِ-كُو تَمُوْنِ
H5906 H3685 H3598 H2315 H8486

بے-خالق کا جہرمٹوں کے ستاروں جنوبی اور پروین خوشہ جوڑے، اکبر ڈب وہی

10	עֲשָׂה	גְּדֹלוֹת	עַד-	אֵין	חִקֵּךְ	וּנְפִלְאוֹת	עַד-	אֵין	מִסְפָּר:
	کرنے-والا	بڑے-کام	یہاں-تک	بغیر	تحقیق-کے	اور-عجائبات	یہاں-تک	بغیر	شمار-کے
	H5704	H5704	H5704	H0369	H2714	H6381	H5704	H0369	H4557

سکتا۔نہیں گن انہیں کوئی کہ بے کرتا معجزے اتنے سکتا، پہنچ نہیں تک تہہ کی اُن کوئی کہ بے کرتا کام عظیم اتنے وہ

11	הֵן	יַעֲרֹךְ	עָלַי	וְלֹא	אֶרְאֶה	וַיַּחֲלֶף	וְלֹא-	אֶבִּין	לֹא:
	دیکھو	گزررتا-بے	میرے-پاس-سے	اور-نہیں	دیکھتا	اور-گزررتا-بے	اور-نہیں	سمجھتا	اُسے
	H2005	H3808	H3808	H7200	H2498	H3808	H0995	H0995	H0995

ہوتا۔نہیں معلوم مجھے تو پھرے سے قریب میرے وہ جب دیکھتا، نہیں اُسے میں تو گزرے سے سامنے میرے وہ جب

12	הֵן	יַחֲזֹק	מִי	יִשְׁבְּנוּ	מִי-	יֵאמַר	אֵלָיו	מַה-	תַּעֲשֶׂה:
	دیکھو	چھین-لیتا-بے	کون	روک-سکتا-بے-اُسے	کون	کہے-گا	اُسے	کیا	کرتا-بے-ٹو
	H2005	H2862	H4310	H7725	H4310	H0559	H0413	H4100	H4100

ہے؟ ربا کر کیا ٓٹو گا، کہے سے اُس کون گا؟ روکے اُسے کون تو لے چھین کچھ وہ اگر

13	אֱלֹהֵי	לֹא-	יָשִׁיב	אֶפְו	אַתְחַתּוֹן	(תַּחֲזִיזוּ)	שָׁחֲחוּ	עֲזָרִי	רַחֲב:
	خدا	نہیں	موزتا	اپنا-غضب	اُس-کے-نیچے	اُس-کے-نیچے	جھکتے-ہیں	مددگار	رب-کے
	H0433	H3808	H7725	H0639	H8478	H8478	H7817	H5826	H7293

گئے۔دبک بھی مددگار کے ازدبے رب تلے رُعب کے اُس آتا۔ نہیں باز سے کرنے نازل غضب اپنا تو اللہ

14	אֶף	כִּי-	אֲנֹכִי	אֶעֱנֶנּוּ	אֶבְחַרְהָ	דְּבָרִי	עִמּוֹ:
	پس	کیونکہ	میں	جواب-دوں-اُسے	چنوں	اپنے-الفاظ	اُس-کے-ساتھ
	H0637	H0595	H0595	H0977	H1697	H1697	H1697

لوں؟چن الفاظ مناسب کے کرنے بات سے اُس طرح کس دوں، جواب اُسے طرح کس میں پھر تو

15	אֲשֶׁר	אִם-	צִדְקָתִי	לֹא	אֶעֱנֶה	לְמִשְׁפָּחִי	אֶתְחַנֶּן:
	جس	اگر	راستباز-ہوں	نہیں	جواب-دوں	اپنے-منصف-سے	التجا-کروں
	H6663	H3808	H6663	H3808	H8199	H8199	H8199

سکتا۔کر نہیں کچھ اور علاوہ کے کرنے التجا میں سے مخالف اس سکتا۔ کر نہ دفاع اپنا تو بھی ہوتا پر حق میں اگر

16	אִם-	קְרָאתִי	וַיַּעֲנֵנִי	לֹא-	אֲאִמִּין	כִּי-	יֵאזִין	קוֹלִי:
	اگر	پکاروں	اور-جواب-دے-مجھے	نہیں	یقین-کرتا	کہ	سنے-گا	میری-آواز
	H7121	H3808	H3808	H3808	H0539	H0238	H0238	H0238

گا۔دے دھیان پر بات میری وہ کہ آتا نہ یقین مجھے تو بھی دیتا جواب کا چیخوں میری وہ اگر

17	אֲשֶׁר-	בְּשַׁעֲרָה	יִשׁוּבְנִי	וְהִרְבֵּה	פָּצְעִי	חַנּוּם:
	جو	طوفان-سے	کچلتا-بے-مجھے	اور-بڑھاتا-بے	میرے-زخم-بے-وجہ	
	H8183	H7779	H7779	H6482	H2600	H2600

بے۔کرتا زخمی بار بار مجھے بلاوجہ کرتا، پاش پاش مجھے وہ میں جواب کے غلطی سی تھوڑی

18	לֹא-	יִתְנֶנִּי	הַשֵּׁב	רוּחִי	כִּי	יִשְׁבְּעֵנִי	מִמָּרְרִים:
	نہیں	دیتا-بے-مجھے	لوٹانے-کی	اپنی-سانس	کیونکہ	بھرتا-بے-مجھے	تلخیوں-سے
	H3808	H5414	H7725	H7307	H7646	H4472	H4472

بے۔دیتا کر سیر سے زہر کڑوے بلکہ دیتا لینے نہیں بھی سانس مجھے وہ

19	אִם-	לְכֹחַ	אֲמִיץ	הִנֵּה	וְאִם-	לְמִשְׁפָּחִי	מִי	יִוַעֲדֵנִי:
	اگر	طاقت-کی-بات-بے	طاقتور	دیکھو	اور-اگر	انصاف-کی-بات-بے	کون	مقرر-کے-گا-میرے-لیے
	H0533	H2009	H0533	H4914	H4310	H4914	H4310	H3259

بے؟سکتا بلا لئے کے پیشی اُسے کون تو بے بات کی انصاف جہاں ہے، قوی وہی تو بے بات کی طاقت جہاں

20	אֵם- اگر	אֶבְרָם راستباز-ہوں	פִּי میرا-منہ	יְרֵשִׁיעִי مجرم-ٹھہرائے-گا-مجھے	תָּם- کامل	אָנִי میں-ہوں	וַיַּעֲקֹבֵנִי: اور-ٹیڑھ-بنائے-گا-مجھے
	H6663	H6310	H7561	H8535	H0589	H6140	

گا۔دے قرار مجرم مجھے وہ تو بھی ہوں بے الزام گو گا، ٹھہرائے قصوروار مجھے منہ اپنا میرا تو بھی ہوں بے گناہ میں گو

21	תָּם- کامل	אָנִי میں-ہوں	לֹא- نہیں	אֶרְעָה جانتا	נַפְשִׁי اپنی-جان-کو	אֶמְאָס حقیر-جانتا-ہوں	חַיִּי: اپنی-زندگی-کو
	H8535	H0589	H3808	H3045	H5315		

ہوں۔جانتا حقیر زندگی اپنی کرتا، نہیں ہی پروا کی جان اپنی میں ہوں! بے الزام میں ہو، بھی کچھ جو

22	אֶחָת ایک-ہی	הִיא ہے	עַל- اس-لیے	כֵּן ہی	אֶמְרָתִי میں-نے-کہا	תָּם کامل	וְרָשָׁע اور-شریر	הוּא وہ	מִכְלָה: فنا-کرتا-ہے
	H0259	H1931			H0559	H8535	H7563	H1931	H3615

ہے۔[دیتا کر بلاک ہی کو دونوں بے دین اور بے الزام]اللہ ہوں، کہتا میں لئے اس ہے، بات ہی ایک خیر،

23	אֵם- اگر	זֶשֶׁט کوڑا	יְמִית مار-ڈالے	פְּתָאֵם اچانک	לְמַסָּת آزمائش-پر	נְקִיָּם بے-گناہوں-کی	יִלְעָנָה: بنستا-ہے
	H7752	H4191	H6597			H3932	

ہے۔بنستا پر پریشانی کی بے گناہ اللہ تو اُتارے گھاٹ کے موت کو انسان آفت کوئی اچانک کبھی جب

24	אֶרֶץ زمین	נְתִיבָה دی-گئی-ہے	בְּיַד- ہاتھ-میں	רָשָׁע شریر-کے	פְּנִי- چہرے	שִׁפְטֵיהֶם اُس-کے-منصفوں-کے	יִכְסֶה ڈھانپتا-ہے	אֵם- اگر	לֹא نہیں	אֶפְוֵא تو-پھر	מִי- کون
	H0776	H5414	H3027	H7563	H6440	H8199	H3680		H3808	H0645	H4310

הוּא:
ہے-وہ
[H1931](#)

ہے؟سے طرف کی کس پھر تو نہیں سے طرف کی اُس یہ اگر ہے۔ دیتا کر بند آنکھیں کی قاضیوں کے اُس اللہ تو جائے کیا حوالے کے بے دین ملک کوئی اگر

25	וַיָּמִי اور-میرے-دن	קָלוּ تیز-ہیں	מְנִי- زیادہ	רָזָה دوڑنے-والے-سے	בְּרָחוּ بھاگ-گئے	לֹא- نہیں	רָאוּ دیکھیا	שׁוֹבָה: بھلائی
	H3117	H7043		H7323	H1272	H3808	H7200	

ہیں۔نکلے بھاگ بغیر دیکھے خوشی گئے، بیت سے تیزی زیادہ کہیں سے آدمی والے دوڑنے دن میرے

26	קָלוּ گزر-گئے	עִם- ساتھ	אֲנִיּוֹת کشتیوں-کے	אֵבָה سرکنڈے-کی	כְּנֶשֶׁר جیسے-عقاب	יָטוּשׁ جھپٹتا-ہے	עָלִי- اوپر	אֶכְלָה: شکار
	H2498	H0591	H0016	H5404	H2907		H0400	

ہے۔مارتا جھپٹا پر شکار اپنے جو طرح کی عقاب اُس ہیں، گئے گزر طرح کی جہازوں بحری کے سرکنڈے وہ

27	אֵם- اگر	אֶמְרִי میں-کہوں	אֶשְׁכַּח بھول-جاؤں	שִׁחִי اپنی-شکایت	אֶעֱזָבָה چھوڑ-دوں	פְּנִי اپنا-چہرہ	וְאֶבְלִינָה: اور-خوش-ہوں
	H0559	H7911	H7879	H6440	H1082		

کروں[اظهار کا خوشی کے کر دُور اُداسی کی چہرے اپنے جاؤں، بھول آہیں اپنی میں]اُو کہوں، میں اگر

28	יְנִיחֵנִי ڈرتا-ہوں	כָּל- سب	עֵצְבֹתַי اپنے-دکھوں-سے	יְדָעֵתִי جانتا-ہوں	כִּי- کہ	לֹא نہیں	תִּנְקֵנִי: بے-قصور-ٹھہرائے-گا-مجھے
	H3025	H3605	H6094	H3045	H3808		H5352

ٹھہراتا۔نہیں بے گناہ مجھے تُو کہ ہوں جانتا میں کیونکہ ہیں۔ کرنی برداشت مجھے جو ہوں ڈرتا سے تکالیف تمام اُن میں بھی پھر تو

